



Prayers from the Holy Quran





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْبُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds, The Gracious, the Merciful, Master of the Day of Judgment. Thee alone do we worship and Thee alone do we implore for help. Guide us in the right path — The path of those on whom Thou hast bestowed [Thy] blessings, those who have not incurred [Thy] displeasure, and those who have not gone astray.”

Surah Al-Fatihah



رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Our Lord, grant us good in this world as well as good in the world to come, and protect us from the torment of the Fire.”

Surah Al-Baqarah, Ch.2: V.202



رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“O our Lord, pour forth steadfastness upon us,
and make our steps firm, and help us against the
disbelieving people.”

Surah Al-Baqarah, Ch.2: V.251



رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Our Lord, do not punish us, if we forget or fall into error; and our Lord, lay not on us a responsibility as Thou didst lay upon those before us. Our Lord, burden us not with what we have not the strength to bear; and efface our sins, and grant us forgiveness and have mercy on us; Thou art our Master; so help us Thou against the disbelieving people.”



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Our Lord, let not our hearts become perverse after Thou hast guided us; and bestow on us mercy from Thyself; surely, Thou alone art the Bestower.”

Surah Aal-e-`Imran, Ch.3: V.9



Prayers of the Holy Prophet





اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

“O Allah! I have wronged my soul much, and none can forgive sins except You. So forgive me with Your forgiveness and have mercy on me. Surely You are the Oft-Forgiving, Most Merciful.”



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ- [...] اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي-

“There is none worthy of worship except Allah, the One. He has no partner. Allah is the Greatest, and all praise belongs to Allah. Holy is Allah, the Lord of the worlds. There is no power and no force except from Allah, the Exalted, the Wise. [...] O Allah, forgive me, have mercy on me, guide me, and provide me sustenance.”



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔

“O Allah! Forgive me, have mercy on me, guide me, grant me security and provide me with sustenance.”

Sahih Muslim



لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ
رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً - إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ -

“O Allah! There is none worthy of worship except You. You are Pure. O Allah, I ask You for forgiveness for my sin and I beseech Your mercy. O Allah, increase me in knowledge and let not my heart deviate after You have guided me, and bestow on me Your mercy. Surely, You are the Great Bestower.”



يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ۔

“O the Ever-Living, the Self-Subsisting! Help me
with Your mercy.”

Sunan al-Tirmidhi



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي۔

“O Allah! I beg of You, by Your mercy which encompasses all things, to forgive me.”

Sunan Ibn Majah



رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَهْدِنِي لِسَبِيلِ الْأَقْوَمِ-

“O my Lord! Forgive me and have mercy on me,
and guide me to the straightest, most upright and
firm path.”

Musnad Ahmad



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
السَّيِّحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ -
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَأْسِ وَالْبُعْرِمِ -

“O Allah! I seek refuge with You from the punishment of the grave, and I seek refuge with You from the mischief of the Dajjal (Antichrist), and I seek refuge with You from the trials of life and death. O Allah! I seek refuge with You from sin and burden of debt.”



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُعْرَمِ وَالْبَأْثَمِ - اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ،
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِبَاءِ الشَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّ
قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ
بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

“O Allah! I seek refuge with You from sloth and old age, debt and sin. O Allah! I seek refuge with You from the trials of the Fire and the punishment of the Fire, the trials of the grave and its punishment, the evil of affluence and the evil of poverty. And I seek Your refuge from the mischief of the Dajjal. O Allah! Wash away my sins with the water of snow and hail, and purify my heart from sins as You have purified the white garment from impurities, and make the distance between me and my sins as the distance You have made between the East and the West.”

Sahih Muslim



اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ،
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ،
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْبُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْبُؤَخِرُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

“O Allah! To You belongs all praise. You are the Sustainer of the heavens and the earth and whatever is in them. To You belongs all perfect praise. Yours is the kingdom of the heavens and the earth and whatever is in them. To You belongs all perfect praise. You are the Light of the heavens and the earth and whatever is in them. To You belongs all perfect praise. You are the Truth, and Your promise is true, and the Meeting with You is true, and Your Word is true, and Heaven is true, and the Fire is true, and all Prophets are true, and Muhammad is true, and the Hour is true. O Allah! To You I have submitted myself, and for You I have striven, and in You I have placed my trust. So forgive me what I have sent forth and what I have left behind, what I have hidden and what I have revealed. You are the First and You are the Last. There is none worthy of worship except You.”

Sahih al-Bukhari



اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي مَا رَزَقْتَنِي۔

“O Allah! Forgive me my sins, make my house spacious for me, and bless what You have provided me as sustenance.”

Sunan al-Tirmidhi



اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ
يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي
نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا-

“O Allah! Put light in my heart, light in my sight, light in my hearing, light on my right, light on my left, light above me, light below me, light in front of me, light behind me, and make light upon light for me.”



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ-

“O my Lord! I seek refuge with You from evil manners, evil deeds and evil desires.”

Sunan al-Tirmidhi



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْبُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

“O Allah! We seek from You the good which Your Prophet Muhammad^{sa} sought, and we seek refuge with You from the evil from which Your Prophet Muhammad^{sa} sought refuge. You alone are the Helper. From You alone do we seek help. Without Allah’s help we have no power to do good or to guard against the onslaughts of Satan.”



رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَعْدِي وَجَهْلِي وَجِدِّي وَكُلُّ
ذَلِكَ عِنْدِي - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْبُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْبُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ -

“O my Lord! Forgive me my faults, my ignorance, my transgressions in all my affairs that You know better than I. O my Allah! Forgive me my sins, intentional or unintentional, done seriously or jokingly, all of which have proceeded from me. O Allah! Forgive me what I have put forward and what I have delayed, what I have concealed and what I have revealed. You alone make things go ahead or put them behind. And You have power over all things.”

Sahih al-Bukhari



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

“There is none worthy of worship except Allah, the Majestic, the Forbearing. There is none worthy of worship except Allah, the Lord of the Tremendous Throne. There is none worthy of worship except Allah, the Lord of the heavens and the earth and the Lord of the Exalted Throne.”



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ،
وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشِهَاتِ الْأَعْدَاءِ -

“The Messenger of Allah sought refuge with Allah from unbearable afflictions, misfortunes, evil destinies and the rejoicing of enemies.”



اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا،
وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

“O Allah! I seek refuge with You from miserliness, and I seek refuge with You from cowardice, and I seek refuge with You from being turned back to the meanest part of old age, and I seek refuge with You from the trials of the world and the punishment of the grave.”



اللَّهُمَّ الْهِنِّي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي۔

“O Allah! Guide me to the means of guidance, and protect me from the evil of my own self.”

Sunan al-Tirmidhi



اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ -

“O Allah! We place You as a Shield before them,
and we seek Your refuge from their mischiefs.”

Sunan Abi Dawud



Prayers of the Promised Messiah





اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین، ثم آمین۔

“O Lord of all the worlds! It is beyond me to offer You gratitude for all Your favours. You are most Merciful and Compassionate, and the bounties that You have conferred upon me are countless. Forgive me my sins, lest I am ruined. Fill my heart with sincere love for You, so that I may receive life. Cover my faults and allow me to perform such deeds which become the source of Your pleasure. I seek refuge in Your noble countenance lest your punishment befalls me. Have mercy and save me from the calamities of this world and the hereafter. For all grace and compassion is in Your hand. Ameen, and again, Ameen.”

(Malfuzat [English], Vol. 1, p. 241)



اے میرے قادر خدا! اے میرے پیارے راہنما! تو ہمیں وہ راہ
دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا اور ہمیں ان راہوں
سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و
ہوا۔

“O my Almighty God, my Beloved Guide! Show us the path which leads the righteous and the sincere to Thee. And save us from treading the path which leads to carnal desires, malice, spite and worldly pursuits.”

(A Message of Peace, p. 5)



سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔

“The best supplication is to implore for God’s pleasure and deliverance from sins, as sins harden the heart and turn a person into a slave of this world. Hence, our supplication ought to be that God Almighty may remove from us the sins that harden our hearts and show us the path of His pleasure.”

(Al Badr, 24 August 1904; Malfuzat [1984], Vol. 7, p. 39)



اے رب العالمین تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے نہایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔

“O Lord of all the worlds! It is beyond me to offer You gratitude for all Your favours. You are most Merciful and Compassionate, and the bounties that You have conferred upon me are countless. Forgive me my sins, lest I am ruined. Fill my heart with sincere love for You, so that I may receive life. Cover my faults and allow me to perform such deeds which become the source of Your pleasure. I seek refuge in Your noble countenance lest your punishment befalls me. Have mercy and save me from the calamities of this world and the Hereafter. For all grace and compassion is in Your hand. Amin, and again, amin.”

(Malfuzat, Vol. 1, p. 241)



ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اور نفس غالب ہے۔ تو ہم کو معاف
فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہمیں بچا۔

“[O God] we are your humble servants and
influenced by our nafs. Please forgive us and save
us from the punishments of the Hereafter.”

(Badr, 26 July 1906, p. 3)



اے خداوند قادر مطلق اگرچہ قدیم سے تیری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں اور اُمیوں کو سمجھ عطا کرتا ہے اور اس دنیا کے حکیموں اور فلاسفوں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے۔ مگر میں تیری جناب میں عجز اور تضرع سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لاجیسے تُو نے بعض کو کھینچا بھی ہے اور ان کو بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرماتا وہ دیکھیں اور سُنیں اور سمجھیں اور تیری اس نعمت کا جو تُو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لئے متوجہ ہو جائیں۔ اگر تُو چاہے تو تُو ایسا کر سکتا ہے کیونکہ کوئی بات تیرے آگے انہونی نہیں۔ آمین ثم آمین۔

“O Omnipotent God, though this is your practice and sunnah since the beginning that You grant understanding to the children and unlettered people and put dark veils on the eyes and hearts of the wise and philosophers of this world. However, I beseech you with humbleness and meekness to draw a Jamaat from among these people towards us as you have drawn others and grant them eyes, ears, and hearts so that they may see, hear and understand and may they realise the value of the blessing that You have sent down at the appointed time and pay heed to attain it. If You desire so, You can do it, since nothing is impossible in front of you. Amin, then again Amin.”

(Izala-e-Auham, Ruhani Khazain, Vol. 3, p. 120)

THE WEEKLY

AL HAKAM

www.alhakam.org